

خیبر پختونخوا

معلومات تک رسائی کا قانون ۲۰۱۳ء



خیبر پختونخوا انفار میشن کمیشن

حکومت خیبر پختونخوا



## خیبر پختونخوا

مجاز ادارے کی طرف سے شائع کردہ

صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا

## نوٹیفیکیشن

بتار تاریخ پشاور، منگل ۵ نومبر، ۲۰۱۳ء

نمبر۔ پی اے / خیبر پختونخوا بلڈر / ۲۰۱۳ / ۱۰۳۹۶ -

خیبر پختونخوا میں معلومات تک رسائی کا قانون کا قانون، ۲۰۱۳ء

خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی نے ۲۰ کتوبر، ۲۰۱۳ء کو پاس کیا اور گورنر خیبر پختونخوانے نے ۲ نومبر ۲۰۱۳ کو منظور کیا،

جسے اب خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کے پاس کردہ ایک قانون کی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔

خیبر پختونخوا معلومات تک رسائی کا قانون ۲۰۱۳ء

(خیبر پختونخوا ۲۰۱۳ء کا ایک نمبر۔ XXVII)

(گورنر خیبر پختونخوا کی منظوری کے بعد پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا کے غیر معمولی سرکاری گزٹ میں بتار تاریخ ۵ نومبر، ۲۰۱۳ء کو شائع کیا گیا)

## نوث:

یہ ترجمہ اس مقصد کے تحت کیا گیا ہے کہ اس کو عوام الناس کیلئے آسان بنایا جائے۔ تاہم قانونی توضیح کیلئے انگریزی میں دیا گیا قانون ہی استعمال ہو سکے گا۔

صوبہ خیبر پختونخوا میں شفافیت اور معلومات تک رسائی کو یقینی بنانے کا قانون

ہر گاہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل A-19 کے تحت ہر شہری کو عوامی اہمیت کی حامل تمام معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہے بشرطیہ قانون کے ذریعے لگائی گئی پابندیوں اور قواعد پر عمل کیا جائے۔

اور ہر گاہ جمہوریت کی کارگزاری اور گورننس کی بہتری، بد عنوانی میں کمی اور سرکاری اور نیم سرکاری اداروں، تنظیموں، سرکاری اور غیر ملکی فنڈز سے چلنے والی عوامی اور دیگر تنظیموں کو اپنے شہریوں کو ان سے متعلق امور کے سلسلے میں زیادہ جوابدہ بنانے کیلئے معلومات کی شفافیت انتہائی ضروری ہے۔

اور ہر گاہ جمہوری عمل میں تمام شہریوں کو حصہ لینے اور عوامی معاملات میں ان کی با معنی شرکت اور اعانت کو مزید بہتر بنانے کیلئے انہیں معلومات تک رسائی کا حق ملنا انتہائی ضروری ہے۔

اس لئے درج ذیل قانون لا گو کیا جاتا ہے:

#### 1. مختصر عنوان، توسعی اور آغاز:

(۱) یہ قانون خیبر پختونخوا میں معلومات تک رسائی کا قانون ۲۰۱۳ء کے لیے کھلا جائے گا۔

(۲) یہ پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں نافذ العمل ہو گا۔

(۳) یہ فوری طور پر نافذ العمل ہو گا۔

#### 2. تعریف ہائے:

اس قانون میں جب تک کوئی چیز مضمون یا حوالہ اس کے خلاف نہ ہو، مندرجہ ذیل الفاظ سے یہ مراد کیا جائے گا۔

(الف): "شکایت" سے مراد ہے کوئی بھی تحریری الزام جو ایک درخواست گزار یا اس کا نمائندہ لگائے کہ کسی عوامی ادارے نے اس کی درخواست برائے حصول معلومات پر قانون کے قواعد اور طریقہ کار کے مطابق عمل نہیں کیا ہے یا اسے ریکارڈ کے تمام یا بعض حصوں تک رسائی سے غلط طور پر انکار کیا گیا ہے۔

(ب): "پیلک انفار میشن آفیسر" سے مراد اس قانون کی شق ۶ کے تحت ایک عوامی ادارے کا نامزد آفیسر ہے۔

(ج) ایک عوامی ادارے سے متعلق "ملازم یا الہکار" سے مراد ہے ایک عوامی ادارے میں بھرتی ایک شخص چاہے وہ مستقل یا عارضی ملازم ہو بشمول کنسٹلٹنٹ۔

(د) "حکومت" سے مراد ہے حکومت خبر پختو نخوا۔

(ز) "معلومات" سے مراد ہے وہ مواد جو معنی رکھتا ہو اور ریکارڈ کی شکل میں محفوظ ہو۔

(س) "انفار میشن کمیشن" سے مراد ہے اس قانون کی شق ۲۷ کے تحت قائم شدہ خبر پختو نخوا انفار میشن کمیشن۔

(ش) "بنائے گئے" سے مراد ہے اس قانون کے تحت بنائے گئے قواعد کے مندرجات۔

(ص) "صوبہ" سے مراد ہے صوبہ خبر پختو نخوا۔

(ط) "عوامی ادارے" سے مراد ہے:

i) خبر پختو نخوا حکومت کا کوئی ملکہ یا ملکہ ملکہ۔

ii) وزیر اعلیٰ اور گورنر خبر پختو نخوا کے سیکرٹریٹ۔

iii) صوبائی اسمبلی خبر پختو نخوا کا سیکرٹریٹ، ممبر ان اسمبلی اور اسمبلی بذات خود۔

iv) کوئی دفتر، بورو، کمیشن، کونسل یا کسی قانون کے تحت قائم شدہ کوئی بھی ادارہ۔

v) ماتحت عدیہ یعنی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی عدالتیں، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی عدالتیں، سینس رسول ججز کی عدالتیں، رسول ججز اور محسٹریٹس کی عدالتیں۔

vi) ٹریبیونل

vii) کوئی ادارہ جو مندرجہ بالا میں سے کسی ایک کی ملکیت یا کھڑوں میں ہو یا ان میں سے کسی سے مالی امداد حاصل کرتا ہو بشمول صوبے کا ملکیتی کاروباری ادارہ۔

viii) کوئی دیگر ادارہ جو عوامی کام کرتا ہو۔

(ع) "ریکارڈ" سے مراد ہے معلومات جو کسی بھی ریکارڈ شدہ حالت میں موجود ہوں۔

(و) "معلومات کیلئے درخواست" سے مراد معلومات کیلئے درخواست بشمول مخصوص ریکارڈ کیلئے درخواست۔

(ک) "درخواست گزار" سے مراد کوئی بھی شہری جس نے اس قانون کے تحت درخواست دی ہو۔

(ق) ۱۰ تیسرا فریق ۱۱ سے مراد ہے معلومات یا ریکارڈ کیلئے درخواست گزار کے علاوہ کوئی اور شخص۔

### ۳۔ معلومات تک رسائی کا حق:

(۱) اس قانون کے مندرجات اور اس کے تحت بنائے گئے قواعد کی رو سے ہر شہری کو کسی بھی عوامی ادارے کے پاس موجود معلومات یا ریکارڈ تک رسائی کا حق حاصل ہوگا۔

(۲) اس وقت لا گو کسی دیگر قانون کے مندرجات سے مبرأ اور اس قانون کے مندرجات کے تحت کسی درخواست گزار کو معلومات یا ریکارڈ تک رسائی سے انکار نہیں کیا جائے گا۔

(۳) اس قانون کی تشریع اس طرح سے کی جائے گی تاکہ

(الف) اس قانون کے مقصد کو آگے بڑھایا جائے، اور

(ب) کم سے کم لاست پر فوری طور پر معلومات فراہم کی جائیں اور اس امر کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

### ۴۔ ریکارڈ کی فہرست بنانا اور دیکھ بھال کرنا:

اس قانون اور اس کے تحت بنائے جانے والے قواعد کے مطابق ہر عوامی ادارہ اس امر کو یقینی بنائے گا کہ اس کے پاس موجود تمام ریکارڈ کی مناسب دیکھ بھال کی جائے تاکہ اس قانون اور انفار میشن کمیشن کی جانب سے قائم کردہ معیار کے مطابق ذمہ داریوں کو پورا کیا جاسکے۔

### ۵۔ ریکارڈ کی دستیابی اور اشاعت:

(۱) عوامی اداروں کی جانب سے معلومات کی مندرجہ ذیل اقسام کو جدید ترین اور بہترین طریقے سے اس طرح شائع کیا جائے گا کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ محدود وسائل کی وجہ سے مناسب پابندیوں کی شرط پر بشویں انتہنیٹ متعلقہ افراد کو رسائی حاصل ہو:

(الف) قوانین اور ذیلی قوانین جیسا کہ قواعد و ضوابط، اعلاء میے، ضمنی قوانین، مینولز اور احکامات جو صوبے میں قانون کی حیثیت رکھتے ہوں، کو عوام کیلئے قبل رسائی بنانے کیلئے مناسب قیمت پر مناسب جگہوں پر دستیاب بنایا جائے۔

(ب) عوامی ادارے کے بارے میں اطلاعات بشویں اس کی تنظیم، کام، فرائض، اختیارات اور خدمات جو یہ لوگوں کو فراہم کرتے ہیں۔

(ج) اس کے افسران اور ملازمین کی تفصیل جس میں ان کے اختیارات، کام، تنخوا ہوں اور مراعات کا تذکرہ ہو۔

(د) عوامی ادارے کی جانب سے فرائض کی ادائیگی کیلئے مقرر کردہ معیار بھول قواعد و ضوابط، طریقہ کار، مینوڑیا پالیسیاں جو اس مقصد کے حصول کیلئے ملازمین استعمال کرتے ہوں۔

(ر) فیصلہ سازی کے طریقہ کار کا بیان اور لوگوں کی طرف سے معاونت یا فیصلہ سازی میں مشاورت کے موقع۔

(س) اہم پالیسیوں یا فیصلوں سے متعلق معلومات کا پس منظر اور متعلقہ حقائق جو عوام کو متاثر کریں۔

(ش) عوامی ادارے کے بجٹ کی تفصیل بھول مجوزہ اور حقیقی اخراجات۔

(ص) کسی بھی رعایت یا منافع بخش پروگرامز جو عوامی ادارے سر انجام دیتے ہوں، کی تفصیلات بھول منافع کی رقم اور مستفید ہونے والوں کی تفصیل۔

(ض) عوامی ادارے کی جانب سے جاری شدہ مراعات، پر ٹس، لائنس اور مجاز بنانے کے اختیارات وصول کرنے والوں کی تفصیلات۔

(ط) عوامی ادارے کے پاس موجود معلومات کی اقسام۔

(ظ) عوامی اداروں کو معلومات کے حصول کیلئے دی جانے والی درخواست دینے کا طریقہ کار بھول نامہ افسران کے نام، عنوان اور تمام رابطوں کی تفصیلات۔

(ع) اسی طرح دیگر معلومات جو تجویز کی جائیں۔

(۲) عوامی ادارہ اس قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے اپنی سالانہ رپورٹ شائع کرے گا جس میں ان معلومات کی تفصیل درج ہو گی جس کے لئے درخواست دی گئی ہو اور جو ادارے نے وصول کی ہوں اور ان درخاستوں پر انجامے گئے اقدامات۔

(۳) ذیلی دفعہ (۲) کے تحت تیار کردہ رپورٹ پیکر صوبائی اسمبلی خیرپختو نخواکوارسال کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ رپورٹ انفار میشن کمیشن کو بھی ارسال کرنی ہو گی جو اس رپورٹ پر جس طرح مناسب سمجھے، کارروائی کرے گا۔

#### 6۔ پلک انفار میشن آفیسر کا تقریر:

(۱) اس قانون کے لاگو ہونے پر عوامی ادارہ ۲۱۰ دن کے اندر ایک آفیسر کی نامزدگی کا حکم جاری کرے گا جو اس قانون کے مقصد

کیلئے پہلک انفار میشن آفیسر کے طور پر کام کرے گا جس کے پاس معلومات کیلئے اس قانون کے تحت درخواست جمع کی جائے گی۔

(۲) ایک آفیسر کی نامزدگی نہ ہونے کی صورت میں یا پہلک انفار میشن آفیسر کی غیر حاضری یا عدم دستیابی کی صورت میں سرکاری ادارے کا انچارج پہلک انفار میشن آفیسر تصور ہوگا۔

(۳) پہلک انفار میشن آفیسر اس قانون کے مطابق معلومات کیلئے دی جانے والی درخواستوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا ذمہ دار ہو گا اور عمومی طور پر عوامی ادارہ اس قانون کے تحت اپنے فرائض کے بارے میں مکمل عمل درآمد کا پابند ہوگا۔

## 7- معلومات کے لئے درخواست:

(۱) اس قانون کے مندرجات کے مطابق ہر شہری عوامی ادارے کو پہلک انفار میشن آفیسر کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کے لئے درخواست دے سکتا ہے۔ پہلک انفار میشن آفیسر اس بات کا ذمہ دار ہو گا کہ معلومات کے لئے دی جانے والی درخواستیں اس قانون کے تحت نمائی جائیں اور عوامی ادارہ اس کے قانون پر مکمل عمل درآمد کرے۔

(۲) معلومات کے لئے درخواست تحریری طور پر دینی ہو گی اور عوامی ادارے کے پاس اسے وصول کرنے کی جو سہولت موجود ہو اس کے ذریعے اسے جمع کرائی جاسکے گی مثلاً بذات خود۔ اسی میں کے ذریعے یا فنکس اور ڈاک کے ذریعے۔

(۳) کوئی بھی تحریری درخواست جو مطلوبہ معلومات یا ریکارڈ کی نشاندہی کرتی ہو مفصل ہونی چاہئے تاکہ اس سے مطلوبہ ریکارڈ ڈھونڈنے میں آسانی ہو یہ درخواست میں واپسی کا پتہ درج ہونا چاہیے تاکہ اسے معلومات کیلئے درخواست تصور کیا جاسکے۔

(۴) ذیلی دفعہ (۳) کی رو سے ایک عوامی ادارہ ایک اختیاری فارم جس پر اطلاعات کیلئے درخواست دی جائے، وضع کر سکتا ہے تاکہ درخواست گزار کو درخواست دائر کرنے میں مدد ملے۔

(۵) کسی بھی صورت میں درخواست گزار کو اپنی درخواست کی وجہ بتانے کے لیے نہیں کہا جائیگا۔

(۶) عوامی ادارے کو جب بھی معلومات کے لئے درخواست موصول ہو جائے تو درخواست گزار کو درخواست کی وصولی کی رسید فراہم کی جائی گی جس پر تاریخ درج ہو گی اور اس افسر کا نام درج ہو گا جو اس درخواست پر عمل درآمد کرنے کا ذمہ دار ہو۔

## 8- درخواست گزار کی مدد:

(۱) پہلک انفار میشن آفیسر وہ تمام مناسب اقدامات کرے گا جسے درخواست گزار کو درخواست دینے میں سہولت فراہم ہو۔

(۲) خاص طور پر ایک پیلک انفار میشن آفیسر ایسے درخواست گزار کی مدد کرے گا جسے درکار معلومات کی تفصیل بیان کرنے میں مشکلات ہوں یا جسے معدود ری کی وجہ سے مدد کی ضرورت ہوتا ہے عوامی ادارہ درکار معلومات کا پتہ لگائے۔

(۳) جہاں ایک درخواست گزار تحریری درخواست دینے کے قابل نہ ہو وہاں پیلک انفار میشن آفیسر درخواست کو تحریری شکل دے گا اور درخواست گزار کو اس کی ایسی نقل دے گا جس پر دستخط بمعدہ تاریخ درج ہو۔

#### 9- جہاں معلومات موجود نہ ہوں:

(۱) جہاں ایک عوامی ادارے کے پاس مطلوبہ معلومات یا ریکارڈ موجود نہ ہو اور اسے معلوم ہو کر کسی دوسرے عوامی ادارے کے پاس یہ معلومات موجود ہیں تو وہ درخواست متعلقہ عوامی ادارے کو ارسال کرے گا اور درخواست گزار کو اس کے بارے میں آگاہ کرے گا۔

(۲) جب ایک عوامی ادارے کے پاس کسی درخواست گزار کے لئے مطلوبہ معلومات یا ریکارڈ موجود نہ ہو اور اسے کسی دوسرے ادارے کے بارے میں بھی معلوم نہ ہو جس کے پاس مطلوبہ معلومات موجود ہوں تو ایسی صورت میں وہ درخواست گزار کو اس کی درخواست واپس کرے گا اور اسے اس بارے میں مطلع کرے گا۔

#### 10- درخاستوں کو منٹانے کا طریقہ کار:

(۱) ایک پیلک انفار میشن آفیسر معلومات کیلئے درخواست کے جواب میں ایک تحریری نوٹس فراہم کرے گا۔

(۲) نوٹس میں اس امر کی نشاندہی کی جائے گی کہ:

(الف) درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے اور درخواست گزار مطلوبہ فیں، اگر کوئی ہو، جمع کرنے کے بعد ریکارڈ یا معلومات تک رسائی کا حق دار ہے۔ یا

(ب) اس نیاد پر درخواست نامنظور کی گئی ہے کہ درخواست قواعد کے مطابق نہیں ہے باوجود اس کے کہ درخواست گزار کو شق ۸ کے مطابق مدد فراہم کی گئی ہے۔ یا

(ج) درخواست کو اس نیاد پر نامنظور کیا گیا ہے کہ مطلوبہ معلومات پہلے سے ہی شائع شدہ حالت میں موجود ہیں یعنی سرکاری گزٹ میں یا کسی دوسری عام قابل رسائی شکل میں، مثلاً کتاب۔ ایسی صورت میں نوٹس کے ذریعے

درخواست گزار کو اس جگہ کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا جہاں مطلوبہ معلومات دستیاب ہوں یا

(د) درخواست کو اس بناء پر رد کیا گیا ہے کہ یہ پریشان کن ہے نیز اس کا تعلق ان معلومات سے ہے جو پہلے ہی اس درخواست گزار کو فراہم کی گئی ہیں۔

(ر) درخواست کو کلی یا جزوی طور پر اس بناء پر رد کیا گیا ہے کہ مطلوبہ معلومات افشاء ہونے سے مستثنی ہیں۔

(۳) جب معلومات یا ریکارڈ میں دفعہ ۲۰ شق (الف) کے مطابق فراہم کئے جائیں گے تو ان کے ہمراہ سرٹیفیکیٹ لف کیا جائے گا جس میں یہ تصدیق کی گئی ہو کہ فراہم شدہ معلومات صحیح اور اصل ریکارڈ کے مطابق ہیں اور اس سرٹیفیکیٹ پر تاریخ اور مجاز افسر کے دستخط موجود ہوں گے۔

## 11۔ جواب دینے کے لئے وقت کا تعین۔

(۱) اس قانون کے تحت عوامی ادارہ سکشن۔۷ کے مطابق درخواست کی وصولی کے دس ایام کا رکے اندر درخواست گزار کو جواب دینے کا پابند ہو گا۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) میں دی گئی اس مدت کو مزید دس ایام کا رکٹک اس صورت میں بڑھایا جاسکتا ہے جب درخواست اس بات کی متقاضی ہو کہ اس کے جواب کے لیے بڑی تعداد میں ریکارڈ دیکھا جائے یا مختلف دفاتر میں تلاش کیا جائے یا کسی تیسرے فرقے یا دیگر عوامی اداروں کے ساتھ مشورہ کیا جائے۔

(۳) ایسی معلومات جو کسی شخص کی زندگی کے تحفظ یا اس کی آزادی سے متعلق ہوں، کو دو ایام کا رہ میں فراہم کی جائیں گے۔

## 12۔ معلومات کی فراہمی کی نوعیت:

جہاں درخواست گزار نے معلومات تک رسائی کے لئے ترجیحی طریقہ کار کی نشاندہی کی ہو جس میں فریکل کاپی (تصدیق شدہ) یا الکٹرونک کاپی یا کسی ریکارڈ کو دیکھنے کی رسائی مطلوب ہوتا، اگر غیر ضروری مداخلت یا متعلقہ ریکارڈ کو نقصان پہنچنے کا باعث نہ بنے، درخواست گزار کو متعلقہ ریکارڈ تک رسائی دی جائے گی۔

## 13۔ درخواست کی فیس:

(۱) معلومات کے حصول کے لئے درخواست کی وصولی مفت ہو گی۔

(۲) معلومات کی نقول کی تیاری اور درخواست گزار کو سمجھنے پر آنے والا خرچہ انفار میشن کمیشن کے اپنائے گے فیسوں کے جدول کے مطابق وصول کیا جائے گا۔

(۳) معلومات میں دیے جانے والے پہلے ۲۰ صفحوں کی کوئی فیس و وصول نہیں کی جائیگی یا

اگر درخواست گزار غربت کی لکیر سے یونچ زندگی گزار رہا ہو تو اس صورت میں کوئی فیس و وصول نہیں کی جائے گی۔

#### 14۔ مستثنی معلومات:

ایک عوامی ادارہ کو ایسی معلومات کو اشتباہ کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا جو اس قانون کے سیکھن ۱۵ اتا ۲۰ میں دی گئی شرائط کے مطابق استثنی کے زمرے میں آتی ہوں بشرطیکہ۔

(الف) دوسرے قوانین (رازداری کی دفاتر) میں دیا گیا استثناء اس قانون کے استثنی میں اضافہ نہیں کر سکے گا تاہم وہ اس قانون کے تحت حاصل استثناء کی وضاحت کر سکے گا۔

(ب) یہ سوال کہ کوئی معلومات خفیہ قرار دی گئی ہیں اس سوال سے غیر متعلق ہے کہ وہ معلومات اس قانون میں دی گئی استثناء کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں۔

(ج) اس قانون میں ریکارڈ یا معلومات کا وہ حصہ جو استثناء کے دائرے میں آتا ہے اس حصے کو الگ کیا جائے گا اور باقی ماندہ ریکارڈ یا معلومات درخواست گزار کو فراہم کی جائیں گی۔

(د) وہ معلومات جو اس قانون کے تحت استثناء کے دائرے میں آتی ہیں جو اس قانون میں فراہم کی گئی ہیں وہ معلومات بھی درخواست گزار کو دی جاسکیں گی اگر عوامی مفاد اس کی مشہری کا تقاضا کرتا ہو۔

(ر) شق (د) میں دیئے گئے مقاصد کے لیے معلومات فراہم کرنے کے حق میں مضبوط رائے قائم کی جائے گی اگر معلومات کی فراہمی سے رشوت ستانی، بد عنوانی، مجرمانہ سرگرمیاں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی یا امن عامہ یا ماحولیات کی خرابی منظر عام پر آسکتی ہو۔

(س) مذکورہ بالاشق ہائے ۱۵ اتا ۱۸ عرصہ میں سال بعد قابل عمل نہیں رہیں گے تاہم غیر معمولی حالات میں انفار میشن کمیشن کی متنظری سے اس استثناء میں مزید پندرہ سال کی توسعہ ہو سکتی ہے۔

## 15۔ بین الاقوامی تعلقات اور سلامتی:

اگر بین الاقوامی تعلقات اور قومی سلامتی کو نگین نقصان پہنچنے کا اندیشه ہو تو ایک عوامی ادارہ معلومات تک رسائی سے انکار کر سکتا ہے۔

## 16۔ معلومات کا اکشاف قانون کے نفاذ کیلئے نقصان دہ:

ایک عوامی ادارہ ایسی صورت میں معلومات دینے سے انکار کر سکتا ہے:-

(الف) اگر معلومات دینے سے جرم کے ارتکاب کا خطرہ ہو۔

(ب) جرم کی تحقیق، سد باب، تفییش، انکواڑی، پراسکیوشن یا مجرم کی گرفتاری کے سلسلے میں نقصان کا خطرہ ہو۔

(ج) معلومات دینا کسی تحقیقات کی بابت خفیہ ذرائع کا پتہ دینے کا باعث ہو۔

(د) معلومات دینا قانون کے تحت زیر حراست افراد کے فرار ہونے میں مدد دے۔

(ر) معلومات دینا جائیداد کے تحفظ، نظام، کسی عمارت، کسی گاڑی، کسی کمپیوٹر سسٹم یا، ذرائع ابلاغ کے نظام کیلئے نقصان کا خطرہ ہو۔

## 17۔ عوامی معاشری امور:

ایک عوامی ادارہ معلومات کی ایسی درخواست رد کر سکتا ہے جن کے قبل از وقت اکشاف کے نتیجے میں معیشت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہو۔

## 18۔ عوامی معاشری معاملات:

ایک عوامی ادارہ ایسی معلومات فراہم کرنے کیلئے درخواست کو مسترد کر سکتا ہے۔ جس کے افشاں کرنے سے ایک عوامی ادارے میں آزادانہ مشاورت یا تبادلہ خیالات کے ذریعے پالیسی مرتب کرنے کے عمل کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو یا اس کے قبل از وقت عوام کے سامنے لانے سے پالیسی کی کامیابی کو ضرر پہنچنے کا احتمال ہو۔

## 19۔ پرائیویٹی:

(ا) ایک عوامی ادارہ معلومات تک رسائی کیلئے ایسی درخواست کو مسترد کر سکتا ہے جس سے درخواست کنندہ کے سواتقبل شناخت

تیسرے فریق یا ایسے فرد جو ۳۱ سال سے کم عمر صد کے دوران فوت ہو چکا ہے، کی پر ایسوں کی میں در اندازی کا باعث بنتی ہو۔

(۲) سب سیکھن (۱) میں مذکورہ اشتہار کا اطلاق مندرجہ ذیل صورتوں میں نہیں ہوگا جہاں

(الف) تیسرے فریق نے مطلوبہ معلومات کے افشاء ہونے پر رضامندی ظاہر کی ہو۔

(ب) درخواست گزار تیسرے فریق کا قابل بھروسہ فرد ہو یا پھر کسی متوفی کا رشتہ دار یا متوفی کی وصیت کو پورا کرنے

والا ہو یا

(ج) تیسرے فریق ایک عوامی ادارے کا ہمار ہو یا تھا اور معلومات کا تعلق بحیثیت عوامی ہمار اس فرد کی کارکردگی سے ہو۔

## 20۔ قانونی استحقاق:

ایک عوامی ادارہ ایسی معلومات سے متعلق درخواست مسترد کر سکتا ہے جو قانونی طور پر پیش ہونے سے مستثنہ ہوں جب تک استحقاق کا اہل شخص اپنے استحقاق سے مستبردار نہ ہوا ہو۔

## 21۔ کرشل اور خیہ معلومات:

ایک عوامی ادارہ معلومات کیلئے درخواست کو مسترد کر سکے گا اگر وہ معلومات:-

(الف) تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں اور اس کے دوسروں کو فراہم کرنے پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہو،

(ب) تیسرے فریق سے بھروسے کے تحت حاصل کی گئی ہوں اور یہ تجارتی راز پر مشتمل ہوں یا اس کے دوسروں کو فراہم کرنے سے تیسرے فریق کے مالی اور تجارتی مقادیر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

## 22۔ تیسرے فریق:

(۱) جہاں معلومات کیلئے درخواست کا تعلق ایسی معلومات یا ریکارڈ سے ہو جو تیسرے فریق سے اعتماد میں حاصل کی گئی ہوں، تو اس صورت میں عوامی ادارہ اس تیسرے فریق سے معلومات یا ریکارڈ کے افشاء ہونے کیلئے رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کے افشاء ہونے سے متعلق اس کے اعتراضات وصول کرے گا۔

(۲) جہاں تیسرے فریق معلومات کے افشاء ہونے پر اعتراض کرے اس کے اعتراض کو زیر غور لایا جائیگا لیکن اس پر فیصلہ عوامی ادارہ معروضی حالات پر غور کرنے کے بعد کرے گا کہ آیا وہ معلومات قانون کے تحت اشتہار کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں۔

(۱) اگر کسی کو یقین ہو کہ اس کی درخواست کو قانون کے تحت نہیں نمٹایا گیا ہے تو اسے اس حوالے سے انفار میشن کمیشن کے پاس شکایت درج کرنے کا حق حاصل ہو گا۔

(۲) سب سیکھن (۱) کے تحت شکایات کا اندر ارج مفت ہو گا۔

(۳) انفار میشن کمیشن کسی بھی درخواست پر فیصلہ ۱۰ دنوں کے اندر اندر کرنے کا پابند ہو گا۔

(۴) دوران اپیل اس بات کا بار ثبوت عوامی ادارہ پر ہو گا کہ اس نے درخواست پر مطابق قانون کارروائی کی ہے۔

#### 24۔ انفار میشن کمیشن:

(۱) اس قانون کے اجراء پر حکومت ۲۰ ادن کے اندر ایک انفار میشن کمیشن قائم کرے گا جو خیبر پختونخوا انفار میشن کمیشن کملائے گا۔

(۲) انفار میشن کمیشن ایک آزاد قانونی ادارہ ہو گا جو کام اور انتظام کے حوالے سے کسی بھی دوسرے شخص یا ادارے بشرطی حکومت اور اس کے اداروں کے اثر سے آزاد ہو گا۔ مساوئے کسی خاص قانون کے تحت فراہم کردہ صورت میں۔

(۳) انفار میشن کمیشن کا سربراہ چیف انفار میشن کمیشن ہو گا جو کم از کم گریڈ ۲۰ کاریئر ڈسینٹر سرکاری ملازم ہو گا اور جس کی تعیناتی حکومت کرے گی۔

(۴) انفار میشن کمیشن دو یا لیگر ممبر ان پر مشتمل ہو گا جو کمیشنر کملائیں گے جن کی تعیناتی مندرجہ ذیل طریقے سے ہو گی:

(الف) ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا ایک ایسا وکیل جو ہائی کورٹ کا نجی بنے کا اہل ہو۔

(ب) سول سو سال تک ایک ایسا شخص جس کے پاس پندرہ سال تک ذرائع ابلاغ، تعلیمی میدان یا معلومات تک رسائی کیلئے کام کرنے کا تجربہ ہو۔

(۵) چیف انفار میشن کمیشنر اور کمیشنر کی تعیناتی کی مدت اپنے عہدے کا چارچ سنبھالنے کے بعد عرصہ تین سال کیلئے ہو گی اور دوبارہ تعیناتی کیلئے اہل نہیں ہوں گے۔

(۶) سب سیکھن (۵) میں شامل کسی چیز سے قطع نظر چیف انفار میشن کمیشنر اور کمیشنر ۲۵ سال کی عمر پوری کرنے کے بعد اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہیں گے۔

(۷) ایک کمپنی نے اپنی پیشے سے اپنی وابستگی کے ساتھ میشن کمیشن میں تعیناتی کے دوران کوئی دوسرا سرکاری عہدہ نہیں لے سکے گا اور نہ ہی وہ کسی سیاسی پارٹی، کار و بار یا پیشے سے اپنی وابستگی کے ساتھ لے سکے گا۔

(۸) اگر کوئی کمپنی بغیر کسی وجہ کمیشن کے تین مسلسل اجلاسوں سے غیر حاضر ہونے، بھیت کمپنی اپنے فرائض انعام دینے سے قاصر ہونے، ذیلی دفعہ (۲) میں دیئے گئے کمپنی کے لئے مطلوبہ شرائط پر پورا نہ اترنے یا کمپنی کی بھیت سے متصادم چال چلن کی بنیادوں پر واضح دوٹ کے ذریعے، جو دوسرے کمپنیوں کے دو دوٹوں سے کم نہ ہو، برخاست کیا جائے گا تاہم ایک کمپنی جس کو اس ذیلی دفعہ کے تحت ہٹایا گیا ہو عدالت میں اپیل کر سکے گا۔

## 25۔ انفار میشن کمیشن کے فرائض:

(۱) انفار میشن کمیشن کا بنیادی کام شکایات کی وصولی اور ان پر فیصلہ دینا ہے۔

(۲) انفار میشن کمیشن شکایات سے متعلق فرائض کے علاوہ مندرجہ ذیل فرائض بھی انعام دے گا:-

(الف) اس قانون کے دفعہ ۲ کے مطابق عوامی اداروں کیلئے ریکارڈ کا تنظیم کرنے کیلئے درکار قواعد اور کم سے کم معیار کا تعین کرنا۔

(ب) ایسی مزید اطلاعات کی نہادی کرنا جو دفعہ ۵ ذیلی دفعہ (۱) کے مطابق پیشگوئی شائع کیے جانے چاہئیں۔

(ج) اس قانون کے دفعہ ۱۳ کی ذیلی دفعہ (۲) کے تحت درخواستوں پر معلومات کی فراہمی کیلئے عوامی اداروں کو ادا کی جانے والی فیس کا شیدول وضع کرنا۔

(د) اس قانون کے دفعہ (۱۲) کی شق۔ (س) کے مطابق اطلاعات کو زیادہ سے زیادہ عرصہ تک خفیہ رکھنے کی درخواستوں پر فیصلہ دینا یا اس عرصہ میں توسعہ کرنا۔

(ر) اس قانون کے تحت معلومات کے حصول کیلئے درخواست دینے کا طریقہ وضع کرنے کیلئے آسان اور عام فہم اردو اور انگریزی زبان میں ایک دستی کتاب تیار کرنا۔

(س) مجاز حکام کو ایسے کیسز بھیجنے جن سے جرائم کی سرزدگی ظاہر ہوتی ہو۔

(ص) ایک ایسی جامع سالانہ رپورٹ تیار کرنا جس میں کمیشن کی اپنی سرگرمیوں بشرط آڈٹ شدہ حسابات کا ذکر ہو اور

اس قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے تمام عوامی اداروں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا ہو اور دفعہ (۵) کی ذیلی دفعہ (۲) کے تحت فراہم شدہ معلومات کا جائزہ لیا گیا ہو۔ اور

(ط) سالانہ بینادوں پر اپنے حسابات کی کسی تسلیم شدہ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے آڈٹ کرانا اور اس کے آڈٹ شدہ حسابات پر مبنی رپورٹ کی نقل صوبائی اسمبلی اور محلہ خزانہ کو ارسال کرنا۔

(۳) انفار میشن کمیشن کے پاس اختیار ہو گا کہ وہ

(الف) تمام عوامی اداروں کے متعلق قانون حفاظاً پر عمل درآمد کرنے کا جائزہ لے اور رپورٹ دے۔

(ب) تمام عوامی اداروں کے متعلق حکومت کو اصلاحات کیلئے عمومی اور خصوصی سفارشات دے۔

(ج) ایسی قانونی اور دیگر تباہیز پر اپنی باقاعدہ رائے دے جو معلومات تک رسائی کے حق کو متاثر کرتے ہوں۔

(د) معلومات تک رسائی کے حق سے متعلق اور اس قانون پر موثر عمل درآمد کے سلسلے میں حکومتی اہل کاروں کو خود تربیت دے یا تربیت میں تعاون کرے۔

(ر) اس قانون کے مقاصد اور اس کے تحت افراد کو حاصل حقوق کی تشبیہ کرے۔

(۴) شکایت پر فیصلہ کرتے وقت انفار میشن کمیشن کم از کم دو ممبر ان یا ایک ممبر اور چیف انفار میشن کمشنر پر مشتمل ہو گا۔ اور کسی بھی ایک ممبر کی غیر موجودگی کی وجہ سے کمیشن کا فیصلہ غیر موثر نہیں ہو گا۔

## 26۔ انفار میشن کمیشن کے اختیارات:

(۱) انفار میشن کمیشن کو بلا واسطہ اور بالواسطہ وہ تمام قانونی اختیارات حاصل ہوں گے جو اس قانون میں درج ذمہ داریوں کو کما حقہ پوری کرنے کیلئے ضروری ہوں جس میں جائیداد کے حصول اور فروخت سے متعلق تمام قانونی اختیارات بھی شامل ہیں۔

(۲) انفار میشن کمیشن کو کسی شکایت یا اس قانون پر مناسب طور پر عمل درآمد سے متعلق معاملات میں بھی تحقیقات کے اختیارات حاصل ہوں گے اور جب ایسی کوئی تحقیقات ہو گئی تو انفار میشن کمیشن کو ضابطہ دیوانی مجریہ ۱۹۰۸ء کے تحت سول کورٹ کے مندرجہ ذیل اختیارات حاصل ہوں گے:

(الف) گواہوں کو طلب کرنا اور ان کی حاضری کو یقینی بنانا اور ان کو اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ حلفاء بانی یا تحریری

(ب) عوامی اداروں کو مجبور کریں تاکہ وہ ضروری دستاویزات اور اشیاء مہیا کریں۔

(ج) عوامی اداروں کے دفاتر کا معائینہ کرنا اور

(د) معلومات کی جانچ پڑھانے اور معائینہ کرنا۔

(۳) کسی شکایت پر فیصلہ کرتے وقت انفار میشن کمیشن کو درج ذیل اختیارات حاصل ہوں گے:-

(الف) کسی عوامی ادارے کو کسی درخواست گزار کو معلومات فراہم کرنے کا حکم دینا یا

ایسے مناسب اقدامات اٹھانا جو اس قانون کے مندرجات کے تحت کسی درخواست گزار کی دادرسی کیلئے ضروری ہوں۔

(ب) کسی الہکار پر ۲۵۰ روپے فی یوم کے حساب سے جرمانہ عائد کرنا جس کی حد ۲۵۰۰۰۰ روپے تک ہو سکتی ہے، جس نے اس قانون کے تحت اٹھائے جانے والے کسی اقدام کا راستہ روکا ہو، جن میں کسی درخواست گزار کو معلومات کی فراہمی کے سلسلے میں تاخیر اور انکار بھی شامل ہے: اور

(ج) کسی عوامی ادارے سے ایسے تمام اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کرنا جو اس قانون کے مندرجات کے تحت نظام کو ناکام ہونے سے بچانے کیلئے درکار ہوں جن میں متعین آفسر کا تقرر، اپنے الہکاروں کو تربیت دینا، اپنے ریکارڈ کے انتظام کو بہتر بنانا، معلومات شائع کرنا اور سالانہ رپورٹ کی تیاری اور اشاعت شامل ہے۔

(۴) ذیلی دفعہ (۳) کے تحت انفار میشن کمیشن کے فیصلے کو عدالت میں رجسٹرڈ کیا جائیگا، اگر اس کے خلاف تمیں دن کے اندر اندر اپیل دائر نہیں کی گئی ہو فیصلے کو نہ ماننے پر تو ہیں عدالت کے مقدمے کی طرح کاروانی کی جائیگی۔

## 27۔ انفار میشن کمیشن کیلئے فنڈ کی فراہمی:

(۱) حکومت انفار میشن کمیشن کیلئے اتنا فنڈ مختص کرے گی جتنا اسکو اپنی ذمہ داریاں موثر طور پر انجام دینے کیلئے درکار ہو گا جن میں ایک سیکرٹریٹ کا قیام اور متعلقہ درکاری شاپ کی بھرتی شامل ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں کماحتہ، پوری کرنے کے قابل ہو سکے اور سال بھر مناسب شیدہ دل کے تحت فنڈز کی ادائیگی کرے گی۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے مقاصد کو حاصل کرنے کیلئے انفار میشن کمیشن صوبائی حکومت کو بھٹ تجویز دے گی۔

(۳) چیف انفار میشن کمپنیز اور کمپنیز ووں کی تنخواہ اور مراعات وہ ہو گئی جو حکومت مقرر کرے۔

## 28- جرائم:

(۱) جان بوجھ کر ایسا عمل کرنا مجرمانہ فعل تصور ہو گا جو

(الف) اس قانون کے تحت حاصل حق کیلئے کسی بھی ریکارڈ تک رسائی سے باز رکھے اور اس میں رکاوٹ ڈالے۔

(ب) اس قانون کے تحت کسی عوامی ادارے کی فرائض کے بجا آوری میں رکاوٹ پیدا کرے۔

(ج) انفار میشن کمپنیز کے کام میں بے جامد اخلت کرے یا

(د) کسی قانونی جواز کے بغیر ریکارڈ ضائع کرے

(۲) جو بھی شخص ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کسی جرم کا رتکاب کرے گا اس کو جرمانہ کیا جائیگا جو پیچاں ہزار روپے سے ذیادہ نہ ہو اور اس کو قید کی سزا دی جائے گی جو کہ دوسال سے ذیادہ نہ ہو۔

(۳) وہ تمام جرائم، جن کا زکر ذیلی دفعہ (۱) میں کیا گیا ہے، قابل صفائت، ناقابل دست اندازی پولیس اور انفار میشن کمپنیز کی دائرہ کردہ شکایت پر متعلقہ ضلع کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں قابل سماعت ہو گئے۔

## 29- تحفظ:

اس قانون یا اس کے تحت بنائے گئے قواعد و ضوابط کی پیروی میں نیک نیتی سے اٹھائے گئے اقدام پر کسی کے خلاف کوئی قانونی، انتظامی اور ملازمت کے حوالے سے قدغن نہیں لگائی جائے گی۔

## 30- توجہ مبذول کرنے والا:

(۱) کسی ایسے شخص کے خلاف کوئی قانونی، انتظامی یا نوکری سے منتعلق قدم نہیں اٹھایا جائیگا جس نے ایسی معلومات فراہم کی ہوں جو مجرمانہ حرکتوں سے پرداہ اٹھائے۔ یا جس سے صحت، امن و امان یا ماحولیات کو درپیش خطرات منظر عام پر آ جائیں جب تک اس شخص نے یہ سب نیک نیتی سے اور معلومات کو درست جانتے ہوئے کیا ہو۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت جرم سرزد ہونے میں، قانون کے تحت ذمہ داری پوری نہ کرنا، بے انصافی، بد عنوانی اور بے ایمانی اور نگینے بدن انتظامی شامل ہے۔

### 31۔ مشکلات حل کرنے کے اختیارات:

اگر اس قانون کے کسی شق پر عمل درآمد کے سلسلے میں کوئی مشکلات پیدا ہوں تو حکومت سرکاری گزٹ میں ایک حکم نامے کے ذریعے ایسی شفیقیشن شامل کرے گی جو اس قانون کے مندرجات سے متصادم نہ ہوں اور جو حکومت کو مشکلات کے حل کے لیے ضروری اور ناجائز نظر آئیں۔

### 32۔ قواعد بانے کے اختیارات:

حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے انفارمیشن کمیشن کی مشاورت سے اس قانون کے مقاصد کے حصول کیلئے قواعد بنائے گی

### 33۔ تنخ:

خیبر پختونخوا ہمیں معلومات تک رسائی آرڈننس ۲۰۱۳ (خیبر پختونخوا آرڈننس نمبر ۷۱۱، ۲۰۱۳) منسوب کیا جاتا ہے۔

جناب پیغمبر کے حکم سے

صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا



# خیبر پختونخوا انفار میشن کمیشن حکومت خیبر پختونخوا

ساتویں منزل، تینیم پلازہ، نزد بیوی ایش فنڈ بلڈنگ، 6- صدر روڈ، پشاور (پاکستان)۔

📞 0800-57784   📞 +92 (091) 9212643   📩 +92 (091) 9211163

🌐 kprt.gov.pk   📩 info.kprt.gov.pk   🌐 /KPRTI   🌐 KP\_RTI

